


# ریاضی حصہ - II

نویں جماعت



# بھارت کا آئین

## حصہ 4 الف

### بنیادی فرائض

#### حصہ 51 الف

بنیادی فرائض - بھارت کے ہر شہری کا یہ فرض ہوگا کہ وہ ...

- (الف) آئین پر کار بند رہے اور اس کے نصب اعین اور اداروں، قوی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے۔
- (ب) ان اعلیٰ نصب اعین کو عزیز رکھے اور ان کی تقلید کرے جو آزادی کی تحریک میں قوم کی رہنمائی کرتے رہے ہیں۔
- (ج) بھارت کے اقتدار اعلیٰ، اتحاد اور سالمیت کو مستحکم بنیادوں پر استوار کر کے ان کا تحفظ کرے۔
- (د) ملک کی حفاظت کرے اور جب ضرورت پڑے قومی خدمت انجام دے۔
- (ه) مذہبی، لسانی اور علاقائی و طبقائی تفرقہات سے قطع نظر بھارت کے عوام انسان کے مابین یک جہتی اور عام بھائی چارے کے جذبے کو فروغ دے نیز ایسی حرکات سے باز رہے جن سے خواتین کے وقار کو ٹھیس پکپختی ہو۔
- (و) ملک کی ملی جلی ثقافت کی قدر کرے اور اُسے برقرار رکھے۔
- (ز) قدرتی ماحول کو جس میں جنگلات، جھیلیں، دریا اور جنگلی جانور شامل ہیں محفوظ رکھے اور بہتر بنائے اور جانداروں کے تینیں محبت و شفقت کا جذبہ رکھے۔
- (ح) دانشورانہ رویے سے کام لے کر انسان دوستی اور تحقیقی و اصلاحی شعور کو فروغ دے۔
- (ط) قومی جائداد کا تحفظ کرے اور تشدد سے گریز کرے۔
- (ی) تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کی بہتر کارکردگی کے لیے کوشش رہے تاکہ قوم متواتر ترقی و کامیابی کی منازل طے کرنے میں سرگرم عمل رہے۔
- (ک) اگر ماں باپ یا ولی ہے، پچھے سال سے چودہ سال تک کی عمر کے اپنے بچے یا وارث، جیسی بھی صورت ہو، کے لیے تعلیم کے موقع فراہم کرے۔

سرکاری فیصلہ نمبر: ابھیاس - ۲۱۱۶ / پرنسپر ۸۳/۱۶) ایں ڈی - ۲۵ مورخہ ۲۰۱۶ء کے مطابق قائم کی گئی رابطہ کمیٹی کی نشست ۳، مارچ ۲۰۱۷ء میں اس کتاب کو درسی کتاب کے طور پر منظوری دی گئی۔

# ریاضی

حصہ - II

نویں جماعت



مہاراشٹر راجہ پाठ्यک्रम سنتک نرمتی و ابھیاس کرم سنشوہن منڈل، پونہ - ۴۱۱۰۰۳



اپنے اسٹارٹ فون میں انسٹال کردہ Diksha App کے ذریعے درسی کتاب کے پہلے صفحے پر درج Q.R. code اسکین کرنے سے ڈیجیٹل درسی کتاب اور ہر سبق میں درج Q.R. code کے ذریعے متعلقہ سبق کی درس و تدریس کے لیے مفید سمعی و بصری ذرائع دستیاب ہوں گے۔

© مہاراشٹر راجیہ پتک نرمی وابھیاں کرم سنتو دھن منڈل، پونہ - ३११००३  
اس کتاب کے جملہ حقوق مہاراشٹر راجیہ پتک نرمی وابھیاں کرم سنتو دھن منڈل، پونہ کے حق میں محفوظ ہیں۔ اس کتاب کا کوئی بھی حصہ ڈائرکٹر، مہاراشٹر راجیہ پتک نرمی وابھیاں کرم سنتو دھن منڈل کی تحریری اجازت کے بغیر کسی بھی شکل میں شائع نہ کیا جاسکتا۔

طبع اول : ۲۰۱۷ء (2017)  
دوسرا اصلاح شدہ ایڈیشن : ۲۰۲۱ء (2021)

### Urdu Translators

Mr. Ansari Abdul Hameed Abdul Majeed

Mr. Momin Al-Nasir Abdus Samad

### Co-ordinator (Urdu)

Khan Navedul Haque Inamul Haque

Special Officer for Urdu,

M.S. Bureau of Textbooks, Balbharati - Pune

### Co-ordinator (Marathi)

Smt. Ujwala S. Godbole

I/C. Special Officer for Mathematics

M.S. Bureau of Textbooks, Balbharati - Pune

### Urdu D.T.P. & Layout

Altaf Ameen (Sadan Graphics)

Malegaon-423203

### Cover, Art work & Designing

Dhan Shri Mukashi, Pune

### Computer Designing

Sandeep Koli, Mumbai

### Production

Shri Sachchitanand Aphale (C.P.O)

Shri Sanjay Kamble (Production Officer)

Shri Prashant Harne (Asst. Production Officer)

### Paper

70, GSM Creamvowe

### Print Order

N/PB/2021-22/8,000

### Printer

S. P. BINDING WORKS, PUNE

### Publisher

Shri Vivek Uttam Gosavi (Controller)

M.S. Bureau of Textbook Production,  
Prabhadevi, Mumbai - 25

### ریاضی مضمون کی کمیٹی

- ❖ ڈاکٹر منگلا نارائیکر (صدر)
- ❖ ڈاکٹر شریمیتی بے شری اترے (رکن)
- ❖ شری رما کانت سرو دے (رکن)
- ❖ شری دادا سو سرڈے (رکن)
- ❖ شری سندیپ پٹچھ بھائی (رکن)
- ❖ شریمیتی لتا نے کر (رکن)
- ❖ شریمیتی اجولا گوڈ بولے (رکن سکریٹری)

### ریاضی مضمون کی مجلس عاملہ

- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| ● شری رام وہنیاں کر         | ● شریمیتی پوجا جادھو    |
| ● جناب انصار شریٹ           | ● شری پرموڈ ھونبرے      |
| ● شریمیتی سورنا دیش پانڈے   | ● شری راجندر چودھری     |
| ● شری گنیش کو لئے           | ● شری اتنا پاریٹ        |
| ● شری سر لیش داتے           | ● شری شریپا د دیش پانڈے |
| ● شری پرکاش جھینڈے          | ● شری بنی ہوائے         |
| ● شری شری کا نت رتن پار کھی | ● شری امیش ریلے         |
| ● شری سوریہ کا نت شہانے     | ● شری چندن گلکرنی       |
| ● شری پرکاش کا پے           | ● شریمیتی اعیتا جاوے    |
| ● جناب سلیم ہاشمی           | ● شریمیتی بالگشی چوہاں  |
| ● شریمیتی آریا بھڑے         | ● شری کلیان کڑیکر       |
| ● شری ملنڈ بھاکرے           | ● شری سندیش سوانو نے    |
| ● شری گیانیشور ماشالکر      | ● شری سمجھیت شندے       |
| ● شری لکشمی داؤنکر          | ● ڈاکٹر ہنومت جگتا پ    |
| ● شری سدھیر پاٹل            | ● شری پرتاپ کا شد       |
| ● شری راجارام بندگر         | ● شری کاشی رام بوبیانے  |
| ● شری پردیپ گوڈ سے          | ● شری پوگاڑے            |
| ● شری رویندر ھندرارے        | ● شریمیتی روہنی شرکے    |
| ● شری ساگر سکوڑے            |                         |

- شریمیتی پر جکتی گوکھلے (مہمان رکن)
- شری وی۔ دی۔ گوڈ بولے (مہمان رکن)
- شریمیتی تزویین پوپٹ (مہمان رکن)

## بھارت کا آئین

### تمہید

ہم بھارت کے عوام متناس و سنجیدگی سے عزم کرتے ہیں کہ بھارت کو  
ایک مقتدر سماج وادی غیر مذہبی عوامی جمہوریہ بنائیں  
اور اس کے تمام شہریوں کے لیے حاصل کریں:  
النصاف، سماجی، معاشری اور سیاسی؛  
آزادی خیال، اظہار، عقیدہ، دین اور عبادت؛  
مساوات باعتبارِ حیثیت اور موقع،  
اور ان سب میں  
اُنخوت کو ترقی دیں جس سے فرد کی عظمت اور قوم کے اتحاد اور  
سامیلت کا تیقّن ہو؛  
اپنی آئین ساز اسمبلی میں آج چھپیں نومبر ۱۹۴۹ء کو یہ آئین  
ذریعہ ہذا اختیار کرتے ہیں،  
 وضع کرتے ہیں اور اپنے آپ پر نافذ کرتے ہیں۔

## راشتہ گپت

جن گن من - ادھ نایک جیئے ہے  
بھارت - بھاگیہ و دھاتا۔

پنجاب، سندھ، گجرات، مراٹھا  
در اوڑ، اُتلک، بنگ،

وِندھیہ، ہماچل، یمنا، گنگا،  
اُچھل جل دھترنگ،

تو شہنامے جاگے، تو شہ آشیں مانے،  
گاہے تو جیہے گا تھا،

جن گن منگل دایک جیئے ہے،  
بھارت - بھاگیہ و دھاتا۔

جیئے ہے، جیئے ہے، جیئے ہے،  
جیئے جیئے جیئے، جیئے ہے۔

## عہد

بھارت میرا ملک ہے۔ سب بھارتی میرے بھائی اور بھینیں ہیں۔

مجھے اپنے وطن سے پیار ہے اور میں اس کے عظیم و گوناگوں ورثے پر  
فخر محسوس کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ اس ورثے کے قابل بننے کی کوشش کروں گا۔

میں اپنے والدین، استادوں اور بزرگوں کی عزت کروں گا اور ہر ایک  
سے خوش اخلاقی کا برتاؤ کروں گا۔

میں اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے خود کو وقف کرنے کی قسم کھاتا  
ہوں۔ ان کی بہتری اور خوش حالتی میں میری خوشی ہے۔

## پیش لفظ

عزیز طلبہ!

نویں جماعت میں آپ کا استقبال ہے۔

ابتدائی تعلیم کا نصاب مکمل کر کے آپ ثانوی سطح پر مطالعہ کی ابتدا کر رہے ہو۔ آٹھویں جماعت تک ریاضی کے لیے صرف ایک درسی کتاب تھی۔ اب ریاضی حصہ I اور ریاضی حصہ II، ان کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے۔

آٹھویں جماعت تک ریاضی کی درسی کتاب میں خط، مثلث، ذوار بعثۃ الاصنالع، دائرہ وغیرہ کی خصوصیت کی تصدیق کر چکے ہو۔ اب مزید کچھ خصوصیت کا آپ منطقی دلائل کے ذریعے مرحلہ وار ثابت کرنا سیکھیں گے۔ منطقی دلائل پیش کرنے کی مہارت کاروباری تمام شعبوں میں اہمیت کی حامل ہے۔ درسی کتاب میں یہ مہارت سکھنے کا موقع ہے۔

درسی کتاب میں مذکور سرگرمیوں (عملی کام) سے متعلق اساتذہ سے، جماعت کے دوست یا سہیلیوں سے بحث و مباحثہ کیجیے اور ان سرگرمیوں پر عمل کر کے خصوصیت کے ثبوت کا مطالعہ کیجیے۔ ثبوت کے ہر مرحلے کی دی ہوئی وجوہات پر بحث و مباحثہ کیجیے اور اس خصوصیت کو سمجھ لیجیے۔ اس درسی کتاب میں اعلیٰ ریاضی کے مطالعہ کے لیے کارآمد علم مثلث اور محدودی علم ہندسه، جیسی اکائیوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح کاروبار اور لین دین میں کارآمد و مفید سطح کارقبہ اور جنم، اکائیوں کا مطالعہ بھی آپ کریں گے۔

انٹرنیٹ کا استعمال کر کے مختلف عملی کام سمجھ لیجیے۔ درسی کتاب کا تفصیلی مطالعہ، عمل سے مربوط درس اور اعادہ، ان تین طریقوں سے ہی بلاشبہ ریاضی کا سفر آپ خوشی و سرسرت سے مکمل کر سکیں گے۔ آئیے تو پھر اساتذہ سرپرست، دوست یا سہیلیاں اور انٹرنیٹ ان سب کو ہمراہ لے کر ریاضی کا مطالعہ کریں۔ اس مطالعہ کے لیے آپ کو نیک تمنا میں!

ڈاکٹر سنیل مگر

ڈاکٹر کٹلر

مہاراشٹر راجیہ پاٹھیہ پٹک نرمتی  
وابھیاس کرم سنٹرو ڈن منڈل، پونہ

پونہ

مورخہ : ۲۸ اپریل ۱۹۶۱ء اکشیہ ترتیب

بھارتی سمشی تاریخ : ۸/۸ ویساکھ ۱۹۳۹

## نویں جماعت ریاضی حصہ II نصاب سے طلبہ میں درج ذیل صلاحیتوں کا ارتقا متوقع ہے۔

زمروہ	اکائی	متوقع صلاحیتیں
1. علم ہندسه	1.1 اقلیدس	<ul style="list-style-type: none"> <li>● دیے ہوئے بیان سے استعمال کے قابل دستیاب معلومات (دیا ہوا ہے) اور اس کی بنابر ثابت کرنے کے لیے بیان (ثابت کرنا ہے) اسے ٹھیک ڈھنگ سے پیش کرنا۔</li> <li>● منطقی دلائل پیش کر کے ثابت کرنا ہے بیان کو ثابت کرنے کی صلاحیت کو فروغ دینا۔</li> <li>● متوازی خطوط اور تقاطع کے ذریعے بننے والے زاویوں کی مختلف جوڑیاں پہچاننا۔</li> <li>● زاویوں کی جوڑیوں کی خصوصیت تصحیحنا اور ان کا استعمال بروقت کرنا۔</li> <li>● دی ہوئی معلومات، دیا ہوا ہے اور ثابت کرنا ہے کی نوعیت میں لکھ کر ثبوت دینا۔</li> <li>● متشابہ مثلثوں کو پہچانا، ان کے اضلاع کی نسبتیں لکھنا۔</li> <li>● متماثل مثلثوں کی آزمائشوں کا استعمال کر کے دائرہ کی خصوصیت ثابت کرنا۔</li> <li>● داخلی دائرہ، خارجی دائرہ بنانا۔</li> <li>● مثلث کی مخصوص باتیں دی ہوں تو مثلث بنانا۔</li> <li>● مخصوص ذواربعتہ الاضلاع کی خصوصیات کا ثبوت لکھنا۔</li> <li>● ICT Tools کی مدد سے مثلث، ذواربعتہ الاضلاع، دائرہ کی خصوصیات کی تصدیق کرنا۔</li> </ul>
2. محدودی علم ہندسه	2.1 محدودی علم ہندسه	<ul style="list-style-type: none"> <li>● مستوی میں واقع ہر نقطے سے مربوط محدودین کی مرتب جوڑی کا مطلب بتانا۔</li> <li>● محدودین کا استعمال کر کے مخصوص نقطے کو بیان کرنا۔</li> <li>● ICT Tools کا استعمال کر کے مستوی میں نقاط کے محدودین معلوم کرنا۔</li> </ul>
3. مساحت	3.1 سطح کا رقبہ اور حجم	<ul style="list-style-type: none"> <li>● کرہ اور مخروط کی سطح کا رقبہ اور حجم معلوم کرنا۔</li> </ul>
4. علم مثلث	4.1 علم مثلث	<ul style="list-style-type: none"> <li>● مشابہ مثلثوں اور فیٹا غورث کے مسئلہ کا استعمال کر کے مثلثیاتی نسبتیں بتانا اور ان کا استعمال کرنا۔</li> </ul>

## اساتذہ کے لیے ہدایات

نویں جماعت ریاضی حصہ-II کی درسی کتاب کا اساتذہ پہلے تفصیلی مطالعہ کریں۔ اس میں دی ہوئی تمام سرگرمیاں (عملی کام) اور تجربات سمجھ لیں۔ عملی کام کے دو حصے ہیں ایک ثبوت لکھنا اور دوسرا خصوصیات کا اور سچھے ہوئے نتائج کا تجربہ کے ذریعے تصدیق کرنا۔ یہ عملی کام کرنے کے لیے اور کتاب سے زیادہ تحریک دلانے کے لیے بحث و مباحثہ، سوال و جواب، اجتماعی سرگرمی جیسے مختلف طریقوں کا استعمال کرنا اساتذہ سے متوقع ہے۔ درسی کتاب کے عملی کام طلبہ سے کروائیں اور اس جیسے کئی عملی کام تیار کرنے کے لیے طلبہ کی رہنمائی کریں۔ مسئللوں کے ثبوت یاد کرنے کی بجائے ان کے منطقی دلائل پر غور کر کے ان کی پیش کش کرنا زیادہ اہم ہے۔ منطقی دلائل سے غور و فکر کی قوت کو ابھارنے کے لیے مختلف مثالیں درسی کتاب میں شامل کی گئی ہیں۔ ایسی کئی مثالیں استاد اور طالب علم مل کر بنائیں۔ فکر آنگیز مثالیں درسی کتاب میں تارے کی علامت لگا کر دی ہوئی ہیں۔ طلبہ مختلف انداز سے غور کر کے منطقی دلائل کے طریقے سے کوئی ثبوت دیں، عملی کام کریں یا مثالیں حل کریں تو اساتذہ ایسے طلبہ کی حوصلہ افراطی کریں۔

قدر پیمائی کرتے وقت آزادانہ جوابی سوالات اور سرگرمی شیٹ پر بھی اساتذہ توجہ دیں۔ قدر پیمائی کے ایسے طریقے کو فروغ دینے کی اساتذہ کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ درسی کتاب میں نمونہ کے طور پر تجربات کی فہرست دی ہوئی ہے۔ نیز دستیاب وسائل سے آپ خود انواع و اقسام کے تجربات بناسکتے ہیں۔ اسی طرح وسائل تعلیم بھی بنائے جاسکتے ہیں۔ درسی کتاب میں مختلف عملی کام کو تجربات کے ساتھ ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ اس پر مبنی قدر پیمائی کے طریقے کا استعمال اگلی جماعت کی صلاحیت کو فروغ دینے میں یقیناً کارامہ ہوگا۔ یہ میں ایسی امید ہے۔

## نمونہ تجربات کی فہرست

1. عددی خط پر دوننقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کرنا۔
2. متوالی خطوط اور تقاطع کے ذریعے بننے والے زاویوں کی خصوصیات کو وسائل کا استعمال کر کے جانچنا۔
3. مختلف وسائل کے ذریعے مثلث کے اضلاع اور زاویوں کی خصوصیات کی جانچ کرنا۔
4. قائمۃ الزاویہ مثلى اور وسطانیہ کی خصوصیات کی تصدیق کرنا۔
5. مثلث بنانے کے لیے مثلثوں کی مختلف پیمائشیں لے کر تمام اقسام کے ہندسی عمل کرنا۔
6. مخروط کی خمدار سطح کے رقبہ کا اندازہ لگانے کے لیے ایک عملی کام دیا ہوا ہے۔ وہ عملی کام  $\pi r^2$ ، نصف قطر والے دائرہ کے لیے کرنا اور دائرہ کا رقبہ  $\pi r^2$  ہے۔ اس کی تصدیق کرنا۔
7. کسی کمرے اور اس کی تمام چیزوں کی پیمائشوں کو دھیان میں رکھ کر پیمانے کے مطابق نقشہ، ترسیمی کاغذ پر بنانا۔
8. اسکول کے میدان پر X اور Y محور بنانا کر طلبہ کے مقام کے محدودین طے کرنے کے لیے عملی کام انجام دینا۔
9. مستطیلی منشور کی جسامت کے ڈبے کا جنم ضابطے کی مدد سے معلوم کرنا اور اسی ڈبے میں لبالب پانی بھر کر پانی کا جنم ناپنا۔ دونوں جوابوں کا موازنہ کرنا اور اسی طرح کئی سرفی اجسام والی چیزوں کے جنم کی تصدیق کرنا۔

## فہرست

صفحات

ابواب

12 سے 1

علم ہندسہ کے بنیادی تصورات .1

23 سے 13

متوالی خطوط .2

50 سے 24

مثلث .3

56 سے 51

مثلث بنانا .4

75 سے 57

ذوار بعثۃ الاضلاع .5

87 سے 76

دائرہ .6

99 سے 88

محمدی علم ہندسہ .7

113 سے 100

علم مثلث .8

123 سے 114

سطح کا رقبہ اور جنم .9

128 سے 124

جوابات کی فہرست ●